

# پچھلی پُشت کے مقابلہ میں آپ زیادہ عمر دراز ہوں گے !!! کیا آپ نے اپنی طویل ریٹائرمنٹ کے لئے سوچا ہے؟

## این پی ایس کیا ہے؟

یہ ایک انتہائی اہل ٹیکنالوجی سے منسلک سسٹم ہے جو آج چھوٹی بچتوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے تاکہ زندگی کی دوسری باری کے لئے موزوں رقم فراہم ہو سکے۔

## این سی پی کیوں؟

- کم لاگتی پراڈکٹ
- افراد، ملازمین اور مالکان کے لئے ٹیکس سے بری
- مارکیٹ سے منسلک دلکش منافع
- محفوظ، موزوں اور آسانی سے قابل انتقال
- تجربہ کار پنشن فنڈ کے ذریعہ پیشہ ورانہ طور پر چلن
- پی ایف آر ڈی اے ایک ایسا ریگولیٹر جسے پارلیمنٹ کے ایک قانون کے تحت قائم کیا گیا ہے

## کون شامل ہو سکتا ہے؟

اگر آپ درج ذیل میں سے کوئی بھی ساری شرائط پوری کرتے ہیں:

- بھارت کے شہری: رہائش پذیر یا غیر ملک میں رہائش
- عمر 60-18 سال کے درمیان شمولیت کی تاریخ پر
- تنخواہ دار یا خود کار اپنا کام

## میں کہاں این پی ایس کھاتہ کھول سکتا ہوں؟

کسی بھی مقام پر جہاں پر بزنس - سروس پرووائڈر (پی او پی - ایس پی) جو پی ایف آر ڈی اے کے ذریعہ آتھورائزڈ ہو۔

ایک آرام دہ زندگی گزارنے کے لئے آپ کو پیشگی  
فنانشیل پلاننگ کی ضرورت ہے

## سوچئے

## نیشنل پنشن سسٹم (این پی ایس)



Save Right  
Retire Bright

نزدیک ترین پی او پی - ایس پی کے متعلق مزید جانکاری کے لئے مفت ٹیلیفون

1800 110 708

یا

ایس ایم ایس

این پی ایس کو \*56677

\* معیاری چار جز لاگو ہوں گے

این پی ایس کے متعلق مزید معلومات اور پی او پی - ایس پی فہرست تک دسترس کے لئے

مہربانی سے

پی ایف آر ڈی اے ویب سائٹ

www.pfrda.org.in پر رجوع کریں

## ریٹائرمنٹ پلاننگ کیوں ضروری ہے؟

- کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی عمر میں آپ کا علاج معالجہ کا خرچ بہت بڑھ جائے گا!
- کیونکہ آپ اپنے بچوں کی آمدنی پر بوجھ بننا نہیں چاہیں گے!
- کیونکہ آپ چاہیں گے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ آپ کی طرف سے کی گئی محنت شاقہ کا انعام ہو سزا نہیں!
- کیونکہ آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی ریٹائرمنٹ آپ کی خواہشات کا آخری نقطہ ہو بلکہ آپ میں نئی خواہشات شروع ہوں!
- کیونکہ آپ کام سے تو ریٹائر ہونا چاہیں گے، زندگی سے نہیں!

## ریٹائرمنٹ پلاننگ کیا ہے؟

آسان طور پر اسے یوں سمجھئے کہ ریٹائرمنٹ پلاننگ وہ پلاننگ ہے جس میں کوئی تنخواہ دار کام کرنے کے بعد اپنی ضروریات زندگی کی تیاری کرے۔ دانشمندانہ ریٹائرمنٹ پلاننگ وہ پلاننگ ہے جس میں آپ محفوظ اور مناسب طریقہ سے پیشگی تیاری کریں تاکہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے پاس اتنی رقم ہو کہ جو آپ کی ضروریات زندگی اور خواہشات کے ساتھ ان کی ضروریات بھی پوری کر سکے جنہیں آپ پیار کرتے ہیں۔

A Public awareness initiative  
on old-age income security



पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण  
Pension Fund Regulatory and Development Authority



एक कदम स्वच्छता की ओर